

بچوں کے لئے بائبل  
تحائف

خدا چھ پننس

بند یوسفس

أبروے

بخشان



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: M. Maillot; Lazarus  
Alastair Paterson

کے مطابق: M. Maillot; Sarah S.

ترجمہ کردہ: [www.christian-translation.com](http://www.christian-translation.com)

کی طرف سے تیار: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

©2023 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،  
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



يوسفَ آو پڻس سَابِقِہ مَالِك فوطيفارَ سَنَدِي  
دُسي ہنگہ منگہ بَانْدِي بناونہ۔ بَانْدِي وانہ تہ رود  
يوسف فرمانبردار تہ سارني اتہ روٹ کران۔  
بَانْدِي وانكي تحويلدارن (نگران افسرن) گُر  
يوسفَس بَانْدِي وانچ زندگي  
شيرنيچ کام تفويض۔ خدا  
اوس يوسفَس سَتِي لِهْزَا  
بنيو پرپتہ بَانْدِي سَنَدِي باپتہ  
يہ بَانْدِي وان رُت تہ بہتر۔



رازِ سُنْدِ کاندُر تہِ مَحے چیاون وول تہِ اوسِ قَادَس  
مَنز۔ "توہی کیا زِ بیتی غمگین۔" اکہ دوہہ پرُوژھ  
یوسفنِ تِمَن۔ "ہے کیاہ ونو اسہ چُھنہ پَننہ خوابُک  
کائہہ تعبیرے ونان۔"

یمو دوکھِ زدو  
وونُس یور۔

"خدا زانہ" یوسفنِ وون "وُلِیو  
وُنِیو مَحے پَننی خواب۔"




"خوابک تعبیر چھ یہ ز ترین دوہن اندر اندر گڑھیو توہی بادشاہ فرعون سُنڈ اعتماد  
حاصل گرتھ واپس،" یوسفن وون مے چیاون وائس خانی سامانس۔ "مے تهاوی ز  
یادے فرعونس ونی ز مے یلہ تراونہ باپتھ۔" مگر کاندر سندس خوابس اوس وولٹہ

تعبیر۔ "ژ مرکھ ترین  
دوہن منزے" یوسفن  
وون کاندرس۔  
دوونوی خوابن دراو  
تعبیر پوز۔



مگر خانی سامانس گو یوسف مُشتھے۔ یوتام اکہ دوہ  
فرعون بڈ پریشان ہیو نیندر ووٹھ۔ "از وچھ مرے اکھ خواب"  
تمی وون بڈ۔ اُسنڈیو دانِشمنڈو ہیوک  
نہ تس کائہہ تعبیر وُنتھ۔



اُتی پیو خانی سامانس یوسف یاد۔  
تُمی وون فرعونس یوسفس متعلق۔



فرعوننَ اَنو وُلّی وُلّی یوسفَ باندی وانہ منز۔ "چون خواب چہ  
خدا سُنَد پاغام۔" یوسفنَ وون بادشاہس۔ "مصرس منز آسن  
ستہ وری خوشحالی ہندی تہ ستہ وری بدحالی ہندی۔"



أزى بنأيو منصوبہ یمن ستن خوشحالی ہندپن  
وُرى ین منز غلہ جمع کرنک۔ یوسفن وون  
فرعونس "نتہ مر چائی ریت بوچہ بوچہ کران  
قحط سالی منز"۔ "ژمے ستری

چہ خدا۔ فرعونن کور

اعلان۔ ژمے رٹھ سورپے

مصر پنس تحویلس منز۔ ژ

روزکہ صرف مے ماتحت۔"





خوشحالی ہندی ستھ وری واتی تہ درامے۔ امہ پتہ آے ستھ وری قحط سالی ہندی۔  
پڑتہ اند اوس غذا نایاب۔ صرف نہ مصرس منز یتہ یمو سیٹھاہ دانشمندی سان  
غذایی اجناس و فور سان کوچھن منز جمع تھومت اوس۔ اتہ پیٹھ واریاہ دور یوسف  
سندس پننس ملکس منز اوس یعقوب سندعیال بوچھ بوچھ کران۔



پڙتھ ملڪ پيٽھ واتي لوڪھ غلہ مولیٰ ہنہ خاطرہ مصر۔ یعقوبن تہ وون پننن گوہرن۔


"توہی تہ گڑھیو نتہ مرو اسی بوچھ بوچھ کران۔" مصر وائتھ

گرامسندیو شریو تیاری ژھل

بل گرتھ غلہ ملی ہینچ۔



يعقوب بٲى نٲچوى نمىبه مصر كس تحوئلدار خدا پرست  
شخصس برؤنه كنه - تمو بٲوكنه پُن بو مے يوسف  
پرزناوى تهے - مگر يوسف اوسكه زانان - يوسفس اسى  
پنى شرى لازهندى خواب ژٲتس - خدائى اس تس  
پنن باين پٲه فضيلت بخشٲر -



يوسف اوس دانا ٿمي ڪر پنهنجن باين سٽي سخت لهجس منڙ  
ڪٿه ته اڪه بومے سمعون روٽن هٿه ڪرته بند۔ "انا ج رٿيو ته  
نيرو ڪر ڪن مگرواپس واتي زيو پئن  
ڪوٺه بومے هٿه۔"



په اوس ٿمي سنڌ حڪم۔ "تيلي تگه اسه زانن ز توپي چهو نه  
جاسوس۔" بايو سونچ ز خدا چهو اسه وري واد برونه يوسف  
بحث غلام گنگ سزا ديوان۔



يعقوب تہ تسندی شری اسی پریشان۔ غذہک قیمتہ او اسہ واپس کرنہ تہ  
حاکمن وون اسہ بنیمین بیتہ واپس پھیرتہ ینہ بابتہ۔ یعقوب اوس نہ ینمن ستی  
بنیمین سوزنہ خاطرہ بلکل تیارمے۔ مگر اناج موکلیو  
ؤلی۔ باین اوس ضروری مصر واٹن۔ بنیمین تہ دراو  
یمنے ستی۔



یٰٓاَیُّهَا یُوْسُفٰنَ بَنِیْمِیْنَ وُجِّهْ تُمّٰی دِیُوْتِ نُوکْرٰنِ حُکْمِ اَکْهٖ بُدُّ دَعُوْتِ رَنْکِ۔ بَیْنِ تِهٖ اَیَّهٖ  
یَنْبِیْجِ دَعُوْتِ دَنْہِ۔ "تُہِنْدُ مَوْلِ چَہَا زَنْدِی تِهٖ اِرْ زُوْمِ۔" یُوْسُفٰنَ پَرِزْہَکْہ۔ شَایِدِ اَوْسِ  
سُہٗ سَآرِی سَہٗ خَآنْدَآنِسِ یَکْہِ وِطَّہٗ وُجَّہِنِکِ وِوِپَاہِ زَہَآنْدَآنِ۔



يوسفَ اوس يتہ زانن ٻڙهان ز آيا اُمسندن باين چها  
ڪانه افسوس پنيس تنه گنهس پڙه يس تمو وري واد  
بروننه ڪورمت اوس۔ دعوت موڪلته رڙي تم يوسفن ڙور  
هنڊ راه ڪهائته۔ "تهند سزا چھ يي ز به  
رڻن بنيمين پڻن غلام۔" يوسفن ونڪھ  
حڪمن مگر يهودا بن ڪورس پور زار



پار۔ "ميانه خداوند ميانه آغہ اُمس بدلہ  
دمہ بہ پڻن زوو چھپہ۔ يوسفن زون ز  
يهودا يمي سہ ڪنڪ صلاح ڏڙاو چھ  
وون پڙي بدليومت۔"





پننن گرکین سیتی پُن لول مزید کُتھ تھاون نہ وپتر اوتھ  
کڈناوی یوسفن ساری مصری لوکھ (پننہ دربار) نپر امہ

پتہ ووٹھس ددرایہ اوش۔ "بہ

چھسو یوسف، تہند بوے،

یس توہ مصرس کُنہ وون۔"

حاران تہ خوفہ ہتین باین

پھور نہ اور کہینی۔



يوسفن دژ باين همته. "خدائين بنووس به  
مصرک حاکم ته پيوکس توہی یتھ

قحطس منز بچاوتھ. نیریو ته انی وون  
پانس سیتی میون مول ته یوری. به تهاو  
توہ سارنی ہند خیال.



يعقوب تہ يوسف رليہ بيہ اکھ اُکس

مسرس منز تہ امہ پتہ بسيو سورے  
خاندان سوکھ تہ فراغت سان۔



خدا چھ پننس بند یوسفس ابروے بخشان

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

پادائش 39 - 45

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

